

## سٹی کے ساتھ 1 اگست کو یوم نجات منائیں

برامپٹن، آن (15 جولائی 2022) – سٹی آف برامپٹن اپنے رہائشیوں کو یوم نجات منانے کی دعوت دیتا ہے، جس کی اہمیت کو افریقی نژاد لوگوں کی غلامی کے خاتمے کی یاد منانے کے حوالے سے عالمی سطح پر تسلیم کیا گیا ہے۔

اس سال، امینسپیشن پارک کی سالگرہ اور یوم نجات منانے کے لیے، سٹی دوپہر سے لے کر رات 8 بجے تک امینسپیشن پارک میں ایک کیریبین فیسٹیول منعقد کر رہا ہے۔ تقریب کے شرکاء خوراک کے ویڈرز، ایک کیریبینز کرافٹرز مارکیٹ، براہ راست تفریح اور مزید سے لطف اندوز ہوں گے۔

سٹی نے پہلی بار 2020 میں ڈیکسی 407 اسپورٹس پارک کا نام تبدیل کر کے امینسپیشن پارک رکھتے ہوئے یوم نجات کی اہمیت کو تسلیم کیا تھا، جس میں ساکر کی چھوٹی اور بڑی بچیں اور کرکٹ کے میدان موجود ہیں۔ اس سال سٹی سب کو دعوت دیتا ہے کہ وہ کیریبین ورثہ اور آزادی اور برامپٹن کی سیاہ فام کمیونٹی کی خدمات کو تسلیم کریں اور فنون لطیفہ، ثقافت، خوراک اور کمیونٹی کے دن کے ساتھ سٹی کی خوبصورت اور متنوع حیثیت کی خوشیاں منائیں۔

اس تقریب کے متعلق [Brampton.ca](http://Brampton.ca) پر مزید جانیں۔

### اقتباسات

"برامپٹن کا تنوع ہی وہ چیز ہے جو ہمارے شہر کو اتنا منفرد بناتا ہے اور ہم سب کے لیے خوشی منانے کی چیز ہے۔ ہم تمام رہائشیوں کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ 1 اگست کو فنون، ثقافت، کھانے اور کمیونٹی سے بھرے ایک دن میں ہمارے ساتھ یوم نجات منائیں اور کیریبین ورثے اور آزادی اور برامپٹن میں سیاہ فام کمیونٹی کی خدمات کو تسلیم کریں۔ ایک ساتھ مل کر، ہم ماضی کو یاد کریں گے، جبکہ ہم تمام لوگوں کے لیے ایک جائز اور منصفانہ مستقبل کی جانب کام کرنا جاری ہیں۔"

- پیٹرک براؤن، میئر، سٹی آف برامپٹن

"سٹی آف برامپٹن جائے کار اور کمیونٹی، دونوں کے اندر تنوع، مساوات اور شمولیت کے عمل کو فروغ دینے کے لیے پُر عزم ہے۔ ہم رہائشیوں کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ ایک گفتگو میں شامل ہونے اور سیاہ فام ثقافت اور برامپٹن میں سیاہ فام کمیونٹی کی خوشیاں منانے کے لیے یوم نجات کی تقریب میں ہمارے ساتھ شامل ہوں۔"

- پال موریسن، انٹیرم چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن

"یوم نجات کو افریقی پس منظر رکھنے والی لوگوں کی سلطنت برطانیہ کی غلامی سے آزادی کی یاد دلانے کے دن کے طور پر منایا جاتا ہے۔ چونکہ یہ قانون 1 اگست 1934 میں زیر اثر آیا، یہ افریقی اور سیاہ فام پس منظر کے لوگوں کے حوالے سے سوچنے اور ورثے اور ثقافت کو منانے کا دن ہے۔ یہ ہمیں تنوع، انصاف، شمولیت اور انسداد نسل پرستی پر اہم گفتگو کو جاری رکھنے کا بھی موقع دیتا ہے۔ اس بات پر توجہ دینا اہم ہے کہ بالائی کینیڈا (اونٹاریو) نے غلامی کو بتدریج ختم کرنے کے لیے 1793 میں ایک قانون پاس کیا اور کئی کینیڈین صوبوں نے 1834 سے پہلے غلامی کو ممنوع کرنے کے لیے اپنے قانون پاس کیے۔ افریقی اور کیریبین ورثے اور آزادی کو منانے اور برامپٹن کے تنوع کا جشن منانے اور کینیڈا اور پوری دنیا میں غلامی کے خاتمے کے لیے دی گئی قربانیوں کو پہچاننے کے لیے ہمارے ساتھ یوم نجات پر شامل ہوں۔"

- مشال ہائرنے، منیجر ایکوئیٹی آفس، سٹی آف برامپٹن

کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 700,000 لوگوں اور 75,000 کاروباروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم اس لیے شراکت داری کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت مندانہ شہر بنا سکیں جو محفوظ، قابل دوام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پر مربوط ہوں۔ مزید جاننے کے لیے [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) ملاحظہ کریں۔

میڈیا کنٹیکٹ

سٹی آف برامپٹن ملٹی کلچرل میڈیا

[multiculturalmedia@brampton.ca](mailto:multiculturalmedia@brampton.ca)